

الكتاب، القرآن، الفرقان، البرهان

خالد مہاجرزادہ

☆☆☆☆☆ الفاتحة ☆☆☆☆☆

﴿ 1/6 ﴾ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ .

☆. الْمُسْتَقِيمَ. (31) (مادہ . ق . و . م) (664)

الْمُسْتَقِيمَ سے متعلق دوسرے الفاظ قِيمَ . قَمَ . قَائِمَ اور يَقُومَ ہیں، جن کے ممکنہ مادے بادیء النظر میں (ق ی م . ق ے م . ق و م .) ہو سکتے ہیں۔ الگ الگ مادے ہونے کی صورت میں ان کے بنیادی مطالب یا خصوصیات الگ الگ ہونی چاہئیں۔ ان سب سے الگ ایک اور لفظ ہے جو قَوْمَ ہے۔ مزید الفاظ پر نظر ڈالتے ہیں۔

اب جب ہم مندرجہ بالا (ق ی م . ق ے م . ق و م .) سے بننے والے الفاظ کا مطالعہ ان آیات سے کریں جن میں ان آیات کو اللہ نے رکھا ہے۔ تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ الفاظ کسی انفرادی عمل (اچھا یا بُرا) یا اعمال کے کرنے والی انفرادی ہستی کو اجتماعیت میں تبدیل کر کے انہیں ایک متحد اکائی۔ قَوْمَ میں تبدیل کرتی ہے۔ اور اس عمل (یا اعمال) سے پیدا ہونے والے نتائج سے اس قوم کو گزرنا پڑتا ہے جو پہلے ہی سے اس کائنات میں منضبط ہیں یعنی قِيمَ ہے۔ کتاب اللہ میں لکھے ہوئے احکامات پر انسانی رد عمل کے مطابق۔ انسانی امت واحدہ میں جو اقوام وجود میں آئیں گی۔ وہ یہ ہیں:

قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ (5/102) .

قَوْمِ نُوحٍ (7/69) - قَوْمِ اِبْرَاهِيمَ (9/70) - قَوْمِ عَادٍ (14/9) - قَوْمِ ثَمُودَ (14/9) - قَوْمِ مُوسَى (7/148) - قَوْمِ يُونُسَ (10/98) - قَوْمِ هُودٍ (11/60) - قَوْمِ لُوطٍ (11/70) - قَوْمِ صَالِحٍ (11/86) - قَوْمِ هَادٍ (13/7) - قَوْمِ فِرْعَوْنَ (7/109) . قَوْمِ طَاعُونَ (51/53) - قَوْمِ بَجْبِئِهِمْ وَيُحِبُّونَهُ (5/54) -

قَوْمِ مُؤْمِنِينَ (9/14) قَوْمِ الصَّالِحِينَ (5/84) - قَوْمِ عَابِدِينَ (21/106) -

قَوْمِ بَيْنِكُمْ وَبَيْنَهُمْ مَبِثَّةٌ (4/90) -

قَوْمِ يَسْمَعُونَ (10/67) - قَوْمِ يُوفُّونَ (2/118) - قَوْمِ يُؤْمِنُونَ (6/99) - قَوْمِ يَعْلَمُونَ (2/230) - قَوْمِ يَعْقِلُونَ . (2/164) قَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ

(10/24) - قَوْمِ يَفْقَهُونَ (6/98) . قَوْمِ يَشْكُرُونَ (7/58) - قَوْمِ يَذَّكَّرُونَ (6/126) -

قَوْمٌ ءَاخِرِينَ (6/133) .

قَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ (62/5) -

قَوْمِ عَدُوِّكُمْ (4/92) - شَتَانُ قَوْمٍ (5/8) - قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (7/81) - قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (7/138) - قَوْمٌ خِيَانَةٌ (8/58) - قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ

(15/15) - قَوْمٌ مَّجْرِمِينَ (15/58) - قَوْمٌ مُّكْرُونَ (15/58) - قَوْمٌ عَادُونَ (26/166) - قَوْمٌ مَّجْرُمُونَ (44/22) - قَوْمٌ كَافِرِينَ

(27/43) - قَوْمِ الظَّالِمِينَ (62/5) - قَوْمِ الظَّالِمُونَ (6/47) - قَوْمِ الضَّالِّينَ (6/77) - قَوْمِ الْفَاسِقِينَ (5/25) - قَوْمِ الْخَاسِرُونَ (7/99) - قَوْمٌ

تَفْتَنُونَ (27/47) - قَوْمِ الْمُفْسِدِينَ (29/30) - قَوْمِ خَصِمُونَ (43/58) - قَوْمٌ تَبِعَ (44/37) -

قَوْمٌ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ (3/117) -

قَوْمٌ يَعْكُفُونَ (7/138) - قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (8/65) - قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ (10/101) - قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ (5/58) - قَوْمٌ لَا يَكَادُونَ (4/78) - قَوْمٌ لَا

يَعْلَمُونَ (9/6) . قَوْمٌ يَفْرُقُونَ (9/56) . قَوْمٌ يَعِدُونَ (27/60) -

| | | | | | |
|----|----------------------------|----|--------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | أَلَقِيمَ | 4 | 30/30 | أَل + قِيمَ | خصوصی قائم |
| 2 | قِيمًا | 1 | 18/2 | قِيمَ + ا | قائم کیا ہوا |
| 3 | قِيمَةً، الْقِيمَةَ | 2 | 98/3 | قِيمَ + ة | قائم کی ہوئی۔ قائم کیا ہوا |
| 4 | قِيمًا | 1 | 6/161 | قِيمَ + ا | قائم کیا ہوا |
| 5 | تُقِيمُوا | 1 | 5/68 | تُ + قِيمُوا | تم قائم کرو۔ |
| 6 | نُقِيمُ | 1 | 18/105 | نُ + قِيمُ | ہم قائم کریں |
| 7 | يُقِيمَا (اف) | 3 | 2/229 | يُ + قِيمَا + ا | وہ دونوں قائم کریں |
| 8 | يُقِيمُوا | 3 | 98/5 | يُ + قِيمُوا | وہ قائم کریں |
| 9 | يُقِيمُونَ | 6 | 5/55 | يُ + قِيمُونَ | وہ قائم کرتے ہیں |
| 10 | أَقِيمُوا | 16 | 7/29 | أ + قِيمُوا | تم قائم کرو |
| 11 | يَسْتَقِيمُ | 1 | 81/28 | يَسُ + ت + قِيمُ | وہ قائم کرے |
| 12 | فَأَسْتَقِيمَا | 1 | 10/89 | فَ + أَسُ + ت + قِيمَا + ا | پس تم دونوں قائم رہو |
| 13 | فَأَسْتَقِيمُوا | 2 | 41/6 | فَ + أَسُ + ت + قِيمُوا | پس تم سب قائم رہو |
| 14 | قِيَامٌ | 2 | 39/68 | قِيَامٌ | قائم ہونا |
| 15 | قِيَامًا. قِيَامًا (ن) | 5 | 5/97 | قِيَامًا + ا | قائم ہونا |
| 16 | الْقِيَامَةَ | 70 | 17/97 | أَل + قِيَامَةَ + ة | اچانک قائم ہونا |
| 17 | مُقِيمٌ. مُقِيمٌ. مُقِيمٌ | 8 | 14/40 | مُ + قِيمٌ | قائم کیا ہوا |
| 18 | أَلْمُقِيمِي | 1 | 22/35 | أَل + مُقِيمِي + ي | قائم کرنے والے |
| 19 | أَلْمُقِيمِينَ | 1 | 4/162 | أَل + مُقِيمِينَ + يَن | قائم کرنے والے |
| 20 | أَلْمُسْتَقِيمِ | 31 | 7/16 | أَل + مُسُ + ت + قِيمِ | قائم کیا ہوا |
| 20 | مُسْتَقِيمًا | 6 | 6/153 | مُسُ + ت + قِيمًا + ا | قائم کیا ہوا |
| 22 | أَلْقِيَوْمُ | 3 | 3/2 | أَل + قِيَوْمُ | قائم ہوا، ہوا |
| 23 | قُمٌ. قُمٌ | 2 | 74/2 | قُمٌ | قائم ہو |
| 24 | قُمْتُمْ | 1 | 5/6 | قُمٌ + تُمْ | تم قائم ہو |
| 24 | تَقُمٌ | 3 | 9/84 | تَ + قُمٌ | تو قائم ہو |
| 26 | أَقِمِ | 8 | 29/45 | أ + قِمِ | تو قائم رکھ (کر) |
| 27 | أَقِمْنَ | 1 | 33/33 | أ + قِمْنَ + ن | تم (مؤنث) قائم رکھو (کرو) |
| 28 | فَأَقِمْتِ | 1 | 4/102 | فَ + أ + قِمْتِ + ت | تو نے قائم کیا |
| 29 | أَقِمْتُمْ | 1 | 5/12 | أ + قِمْتُمْ + تُمْ | تم نے قائم کیا |
| 30 | إِسْتَقِيمُ. فَيَسْتَقِيمُ | 2 | 11/112 | فَ + إِسُ + ت + قِيمُ | تو قائم رہ |

| | | | | | |
|----|-------------------------------------|----|-------|----------------|-----------------------------|
| 31 | اِسْتَقَامُوا | 4 | 9/7 | اِسْتَقَامُوا | وہ قائم رہیں |
| 32 | قَامُوا | 4 | 4/142 | قَامُوا | وہ قائم ہوئے |
| 33 | اَقَامُوا | 10 | 7/170 | اَقَامُوا | انہوں نے قائم رکھا |
| 34 | فَاَقَامَهُ | 1 | 18/77 | فَاَقَامَهُ | پس اُس نے اُس کو قائم رکھا |
| 35 | اَقَامَ | 2 | 2/177 | اَقَامَ | اُس نے قائم کیا |
| 36 | اِقَامَ. (اف) | 2 | 21/73 | اِقَامَ | قائم رکھنا |
| 37 | اِقَامْتِكُمْ | 1 | 16/80 | اِقَامْتِكُمْ | تمہارا قائم کرنا |
| 38 | قَامَ. (ن) | 1 | 72/19 | قَامَ | وہ قائم ہوا |
| 39 | مَقَامَ. مَقَامَ. مَقَامَ. مَقَامَ. | 8 | 2/125 | مَقَامَ | قائم کیا گیا |
| 40 | مَقَامًا. مَقَامًا | 2 | 19/73 | مَقَامًا | قائم کیا گیا |
| 41 | اَلْمَقَامِةَ | 1 | 35/35 | اَلْمَقَامِةَ | خاص قائم کیا گیا |
| 42 | مَقَامِكَ | 1 | 27/39 | مَقَامِكَ | تیرا مقام |
| 43 | مَقَامَهُمَا | 1 | 5/107 | مَقَامَهُمَا | اُن دونوں کا مقام |
| 44 | مَقَامِي | 2 | 10/71 | مَقَامِي | میرا مقام |
| 45 | قَائِمٌ | 3 | 13/33 | قَائِمٌ | قائم |
| 46 | قَائِمًا | 5 | 3/18 | قَائِمًا | قائم رہنے والا |
| 47 | قَائِمَةٌ | 5 | 3/113 | قَائِمَةٌ | قائم رہنے والی |
| 48 | قَائِمُونَ | 1 | 70/33 | قَائِمُونَ | قائم رہنے والے |
| 49 | اَلْقَائِمِينَ | 1 | 22/26 | اَلْقَائِمِينَ | قائم رہنے والے |
| 50 | اَقْوَمَ. اَقْوَمَ | 4 | 17/19 | اَقْوَمَ | قائم کیا گیا |
| 51 | تَقْوَمَ. تَقْوَمَ | 11 | 27/39 | تَقْوَمَ | تو قائم ہوتا ہے، ہوگا |
| 52 | تَقْوَمُوا | 2 | 4/127 | تَقْوَمُوا | تم قائم ہوتے ہو |
| 53 | تَقْوِيمٍ. (تف) | 1 | 95/4 | تَقْوِيمٍ | قائم کرنا |
| 54 | قَوْمًا | 1 | 2/238 | قَوْمًا | تم قائم ہو |
| 55 | يَقْوَمَ. لِيَقْوَمَ | 6 | 57/25 | لِيَقْوَمَ | تا کہ وہ قائم ہو۔ ہوتا ہے |
| 56 | لِيَقْوَمُوا | 1 | 14/37 | لِيَقْوَمُوا | تا کہ وہ قائم ہوں۔ ہوتے ہوں |
| 57 | يَقْوَمَانِ | 1 | 5/107 | يَقْوَمَانِ | وہ دونوں قائم ہوتے ہیں |
| 58 | يَقْوَمُونَ | 1 | 2/275 | يَقْوَمُونَ | وہ قائم ہوتے ہیں |
| 59 | قَوَامًا | 1 | 25/67 | قَوَامًا | قائم رہتے ہیں |
| 60 | قَوَامُونَ. (ن) | 1 | 4/34 | قَوَامُونَ | قائم رہنے والے |
| 61 | قَوَامِينَ | 2 | 4/135 | قَوَامِينَ | قائم رہنے والے |

| | | | | | |
|----|--|-----|-------|-----------------|------------------------|
| 62 | قَوْمٌ. لِقَوْمٍ. الْقَوْمِ | 206 | 62/5 | أَلْ+قَوْمٌ | قوم |
| 63 | يَا قَوْمِ | 47 | 11/84 | يَا+قَوْمٌ | اے قوم |
| 64 | قَوْمًا | 40 | 47/38 | قَوْمًا+ا | قوم |
| 65 | قَوْمَهُ. قَوْمِهِ. قَوْمِهِ. قَوْمَهُ | 56 | 6/80 | قَوْمُهُ+ه | اس کی قوم |
| 66 | قَوْمَهَا | 2 | 27/24 | قَوْمَهَا+ها | اس (مونث) کی قوم |
| 67 | قَوْمَهُمْ. قَوْمِهِمْ | 9 | 10/74 | قَوْمَهُمْ+هم | ان کی قوم |
| 68 | قَوْمَهُمَا. قَوْمَهُمَا | 2 | 23/47 | قَوْمَهُمَا+هما | ان دونوں کی قوم |
| 69 | قَوْمِكَ. قَوْمِكَ. قَوْمِكَ | 11 | 6/74 | قَوْمِكَ+ك | تیری قوم |
| 70 | لِقَوْمِكَمَا | 1 | 10/87 | لِ+قَوْمِكَمَا | تم دونوں کی قوم کے لئے |
| 71 | قَوْمِي | 5 | 25/30 | قَوْمِي+ي | میری قوم |
| 72 | قَوْمَنَا. قَوْمَنَا. قَوْمَنَا | 4 | 7/89 | قَوْمَنَا+نا | ہماری قوم |

☆ - صراط المستقیم کی طرف ہدایت کون دے گا؟

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝ (42/52)

اور اس طرح ہم نے وحی کی روح، اپنے امر میں سے۔ تجھے معلوم نہ تھا کہ الکتاب کیا ہے؟ اور الایمان کیا ہے؟ بلکہ ہم نے اُس (الکتاب) کو نور بنایا، ہم اُس (الکتاب) کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں، اپنی نشاء سے اپنے عباد میں سے اور یقیناً تو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دینے کے لئے ہے۔

☆ - صراط المستقیم کیا ہے؟

قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ (6/161)

کہہ! یقیناً میری ہدایت میرے رب نے صراط مستقیم کی طرف کی ہے۔ ملت ابراہیم حنیف کا دین قائم ہے۔

اور (میں) المشرکین میں نہیں ہوسکتا۔

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ (6/162)

کہہ! یقیناً میری صلوات، اور میری نسک (پروگرام)، اور میری حیات، اور میری موت اللہ رب العالمین کے لئے ہے۔

نوٹ: اللہ کا حکم اور محمد ﷺ کی تلاوت عربی میں ہے۔ تراجم و تفسیر و مقدمات سے اللہ یا محمد ﷺ کا کوئی تعلق نہیں، ان کا وبال مترجم، مفسر یا قادم پر ہوگا۔ لہذا اپنے دماغ میں اللہ کے عربی الفاظ حفظ کریں اور حافظوں کی ابتدائی جماعت میں شامل ہو کر اپنے افعال و اعمال کو اللہ کے حکم کے مطابق کر لیں۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

هَدَىٰ . صِرَاط . قَوْمٌ

هَدَىٰ، صِرَاط اور قَوْم سے بننے والے کل 200 الفاظ کا علم آپ نے حاصل کیا جو الکتاب میں 1,025 مرتبہ آئے ہیں، انہیں یاد کر لیں،

☆☆☆☆☆☆☆☆

اعادہ

ق ا م . قِمُّ قُمْتُمْ تَقُمُّ أَقِمِ أَقِمْنَ فَأَقَمْتَ أَقَمْتُمْ أَسْتَقِمُ فَاسْتَقِمِ .

أَسْتَقَامُوا قَامُوا أَقَامُوا فَأَقَامَهُ أَقَامَ إِقَامَتِكُمْ قَامَ مَقَامٍ مَقَامًا مَقَامِكَ مَقَامَهُمَا مَقَامِي مَقَامٌ مَقَامٌ مَقَامٌ مَقَامًا مَقَامًا أَلْمَقَامَةَ .
فَأَيْمُ . فَأَيْمًا فَأَيْمَةً . فَأَيْمُونَ . فَأَيْمِينَ .

ق ی م = أَلْقِيْمِ قِيَمًا قِيَمَةً . الْقِيَمَةُ قِيَمًا قِيَمَةً . قِيَمًا تَقِيْمُوا نَقِيْمٌ يُقِيْمُ يُقِيْمُ يُقِيْمُوا يُقِيْمُونَ أَقِيْمُوا يَسْتَقِيْمُ فَاسْتَقِيْمَا فَاسْتَقِيْمُوا قِيَامًا قِيَامًا .
قِيَامًا أَلْقِيَامَةَ مُقِيْمٌ مُقِيْمٌ مُقِيْمٌ . أَلْمُقِيْمِي أَلْمُقِيْمِينَ أَلْمُسْتَقِيْمِ أَلْمُسْتَقِيْمَا أَلْقِيَوْمُ .

ق و م = أَقْوَمَ أَقْوَمًا تَقْوَمُ تَقْوَمُوا تَقْوِيْمٌ قَوْمُوا يَقْوِمُ لِيَقْوِمَ لِيَقْوِمُوا يَقْوِمَانِ يَقْوِمُونَ قَوَامًا قَوَامُونَ قَوَامِينَ .
قَوْمٌ لِقَوْمٍ أَلْقَوْمِ يَأْقَوْمُ قَوْمًا قَوْمَكَ لِقَوْمِكُمْ قَوْمَنَا قَوْمَنَا قَوْمَهُ قَوْمِهِ قَوْمُهُ قَوْمَهَا قَوْمَهَا قَوْمِي .
اب جب بھی تلاوت میں آپ یہ حروف اور الفاظ سنیں گے۔